

ایپ ڈاؤن لوڈ کیسے کریں

یہ انٹرنیٹ ہدایات آپ کو بتائیں گی کہ کیسے آپ اپنے ڈیوائس پر ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

آپ ایپس گوگل پلے سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

گوگل پلے کو کہیں کہیں پلے اسٹور بھی کہا جاتا ہے۔

گوگل پلے ایک آن لائن دکان کی طرح ہے جہاں سے آپ اپنے فون، کمپیوٹر یا ٹیبلیٹ کے لئے مختلف قسم کے ایپس خرید سکتے ہیں۔

گوگل پلے آئی کون اس طرح دکھائی دیتا ہے۔



گوگل پلے بھی ایک ایپ ہے


ہدایات

۱۔ اپنے ڈیوائس کو آن اور ان لاک کریں۔

۲۔ گوگل پلے آئیکن پر ٹیپ کریں یا پھر انٹرنیٹ پر گوگل پلے ویب پیج کھولیں۔




۳۔ پیج کے سب سے اوپر والے حصے میں آپ کو سرچ بار نظر آئے گا۔

۴۔ آپ سرچ بار میں ایپ کا نام ٹائپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر زوم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔

۵۔ سرچ بار میں زوم ٹائپ کریں

۶۔ میگنی فائنگ گلاس (بڑا دکھانے والا عدسہ) کا آئیکون پریس کریں۔



۷۔ زوم کے آئیکون پر ٹیپ کریں۔ عام طور پر الٹے ہاتھ پر پہلا ایپ ہوتا ہے جو آپ ڈھونڈتے رہے ہوتے ہیں۔



۸۔ انسٹال کے آئیکون پر کلک کریں۔



۹۔ ایپ خود بخود آپ کے ڈیوائس پر انسٹال ہو جائے گا اور آپ کے ہوم اسکرین پر نظر آئے گا۔

۱۰۔ زوم استعمال کرنے زوم ایپ پر ٹیپ کریں تو وہ کھل جائے گا۔

چیزوں کی معلومات !

ایپ اور اسٹوریج اسپیس

ہر وہ ایپ جو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں آپ کے ڈیوائس کی اندرونی اسٹوریج پر جگہ گھیرتا ہے۔ جب اسٹوریج کم ہو جائے تو آپ کے فون یا ٹیبلیٹ میں مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

اسٹوریج اسپیس چیک کرنے کے لئے اپنے فون میں سیٹنگ آئیکن پر جا کر کلک کریں۔



پھر اسٹوریج پر ٹیپ کریں۔



کسی بھی ایپ کو ان انسٹال کرنے کے لئے اس ایپ کے آئیکن پر ٹیپ اور ہولڈ کریں اور ان انسٹال پر پریس کریں۔ یہ ایک بن کی طرح دکھائی دے گا۔



مزید تعاون

مانچسٹر ڈیجیٹل چیمپینز کی جانب سے فون پر معاونت

آپ کے پاس ایسا ڈیوائس ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے؟
اس کے استعمال کے لئے مدد کی ضرورت ہے؟
ہمارے پاس ڈیجیٹل چیمپینز کی ٹیم موجود ہے
جو ٹیلی فون پر مانچسٹر کے رہائشیوں کو مدد فراہم کرے گی۔
پندرہ زبانوں میں کالز کی جاسکتی ہیں۔
0786 0064128 پر کال کریں۔

اپنا نام بتائیں ہم آپ کو خود کال کریں گے اور مدد فراہم کریں گے۔
digitalinclusion@manchester.gov.uk پر ای میل کریں۔

کووڈ ۱۹ کے دوران رابطے میں رہیں

آن لائن آنے کے لئے اگر آپ کو مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے تو کمیونٹی کووڈ ۱۹ سپورٹ ہیلپ لائن کے نمبر

پر کال کریں **0800 2346123**

digitalinclusion@manchester.gov.uk پر ای میل کریں۔

مزید معلومات کے لئے لنک پر کلک کریں :

https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_connected_through_covid-19_leaflets

This guide was produced in partnership with the following groups, networks and organisations:



MANCHESTER
CITY COUNCIL

All information provided at time of writing and distribution is true and correct but may change without notice. We will endeavor to keep information updated each month. Please check out the website for the latest downloadable version: <https://buzzmanchester.co.uk/>

For further information about this guide, please email: simon.kitchin@gmmh.nhs.uk or lorna.dawson@gmmh.nhs.uk

[Version 7 Android_Urdu_October 2020]